

# Dan

## Chapter 9

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	בְּשֵׁנַת	אַחַת	לְדָרוֹשׁ	בֶּן־	אַחְשָׁרוֹשׁ	מִזְרַע	מָדִי	אֲשֶׁר	הַמֶּלֶךְ	עַל	מַלְכוּת
	سال-میں	پہلے	دارا-کے	بیٹے	اخسویروس-کے	نسل-سے	مادی-کی	جو	بادشاہ-بنا	پر	سلطنت
	<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H1867</a>		<a href="#">H0325</a>	<a href="#">H2233</a>	<a href="#">H4074</a>				<a href="#">H4438</a>

کشدیم:

کسیدیوں-کی  
[H3778](#)

بادشاہ مادی اس تھا۔ گیا بیٹھ پر تخت کے بابل اخسویروس بن دارا

2	בְּשֵׁנַת	אַחַת	לְמַלְכוֹ	אֲנִי	דָּנְיָאֵל	בִּינְיָמִן	בְּסֻפְרִים	מִסְפָּר	הַשָּׁנִים	אֲשֶׁר	הָיָה
	سال-میں	پہلے	اُس-کی-سلطنت-کے	میں	دانی-ایل	سمجھا	کتابوں-میں	گنتی	سالوں-کی	جو	تھا
	<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H0259</a>		<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H1840</a>	<a href="#">H0995</a>		<a href="#">H4557</a>	<a href="#">H8141</a>		<a href="#">H1961</a>

دَبَّر-	יְהוָה	אֶל-	יְרַמְיָה	הַנְּבִיא	לְמַלְאוֹת	לְחַרְבוֹת	יְרוּשָׁלַם	שְׁבָעִים	שָׁנָה:
کلام	یہوواہ-کا	پاس	یرمیاہ	نبی-کے	پورا-ہونے-کے-لیے	ویرانیوں	یروشلم-کی	ستر	سال
<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3414</a>	<a href="#">H5030</a>	<a href="#">H4390</a>	<a href="#">H2723</a>	<a href="#">H3389</a>	<a href="#">H7657</a>	<a href="#">H8141</a>

تھا۔ فرمایا معرفت کی نبی یرمیاہ نے رب جو کیا غور پر اُس کر خاص نے میں کی۔ تحقیق کی نوشتوں پاک نے دانیال میں، میں سال پہلے کے حکومت کی گی۔ رہے قائم تک سال 70 حالت شدہ تباہ کی یروشلم مطابق کے اُس

3	وְאֶתְנָה	אֶת-	פָּנָי	אֶל-	אֲדֹנָי	הָאֱלֹהִים	לְבַקֵּשׁ	תְּפִלָּה	וְתַחֲנוּנִים
	اور-میں-نے-رخ-کیا	کو	منہ	طرف	خداوند	خدا-کی	تلاش-کرنے-کے-لیے	دعا	اور-التجائیں
	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0136</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H1245</a>	<a href="#">H8605</a>	<a href="#">H8469</a>

بָצוּם  
روزے-سے  
اور-ٹاٹ  
[H8242](#)  
اور-راکھ  
[H0665](#)  
وְאֶפְרָ:  
[H0665](#)

لباس کا ٹاٹ رکھا، روزہ نے میں ساتھ ساتھ کروں۔ دریافت مرضی کی اُس سے التجاؤں اور دعا اپنی تاکہ کیا رجوع طرف کی خدا اپنے رب نے میں چنانچہ لی۔ ڈال راکھ پر سر اپنے اور لیا اوڑھ

4	וְאֶתְפִלָּה	לִיהוָה	אֱלֹהֵי	וְאֶתְנַדְּהָ	וְאֶמְרָה	אָנָּה	אֲדֹנָי	הָאֱלֹהֵי	הַגְּדוֹל
	اور-دعا-کی-میں-نے	یہوواہ-سے	میرے-خدا	اور-اقرار-کیا	اور-کہا-میں-نے	آہ	خداوند	خدا	بڑا
	<a href="#">H6419</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3034</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0577</a>	<a href="#">H0136</a>	<a href="#">H0410</a>	

وְהַנְזִיא	שָׁמַר	הַבְּרִית	וְהַחֲסֵד	לְאֶהָבָיו	וְלִשְׁמָרָי	מִצְוָתָיו:
اور-بیبت-ناک	رکھنے-والا	عہد	اور-شفقت-کو	اپنے-محبت-کرنے-والوں-کے-لیے	اور-رکھنے-والوں-کے-لیے	تیرے-احکام
<a href="#">H3372</a>	<a href="#">H8104</a>	<a href="#">H1285</a>		<a href="#">H0157</a>	<a href="#">H8104</a>	<a href="#">H4687</a>

کے اُس بے ربتا تابع کے احکام تیرے اور کرتا پیار تجھے بھی جو ہے! خدا مہیب اور عظیم کتنا ٹو رب، اے کیا، اقرار کے کر دعا سے خدا اپنے رب نے میں بے کرتا مہربانی پر اُس اور رکھتا قائم عہد اپنا ٹو ساتھ

5	חֲטָאוֹ	וְעֵינָיו	וְהַרְשַׁעוֹנִי	(הַרְשַׁעוֹנִי)	וּמְרַדְּנוֹ	وְסוֹר
گناہ-کیا-ہم-نے	اور-بدکاری-کی-ہم-نے	شرارت-کی-ہم-نے	شرارت-کی-ہم-نے	اور-سرکشی-کی-ہم-نے	اور-مڑے	
<a href="#">H2398</a>		<a href="#">H7561</a>	<a href="#">H7561</a>	<a href="#">H7561</a>	<a href="#">H4775</a>	<a href="#">H5493</a>

مִמְשַׁפְּטֵיךָ:  
تیرے-احکام-سے  
اور-تیرے-قانونوں-سے  
[H4941](#)  
مִמְצוֹתֶיךָ  
[H4687](#)

ہیں۔ گئے بھٹک سے ہدایات اور احکام تیرے کر ہو باغی اور بے دین ہم ہے۔ کی بدی اور گناہ نے ہم لیکن

6	וְלֹא	שָׁמַעְנוּ	אֶל-	עֲבַדְיָךָ	הַנְּבִיאִים	אֲשֶׁר	דִּבְרוּ	בְּשִׁמּוֹךְ	אֶל-	מְלִכֵינוּ
	اور نہ	سنا ہم نے	کی	تیرے بندوں	نبیوں کی	جنہوں نے	بولا	تیرے نام سے	سے	ہمارے بادشاہوں
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H5030</a>		<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4428</a>
	שָׂרֵינוּ	וְאֲבֹתֵינוּ	וְאֵל	כָּל-	עַם	הָאָרֶץ:				
	ہمارے سرداروں	اور ہمارے باپ دادا	اور سے	تمام	قوم	سرزمین کی				
	<a href="#">H8269</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H0776</a>				

ہوئے مخاطب سے باشندوں تمام کے ملک بلکہ دادا باپ بزرگوں، بادشاہوں، ہمارے کر لے نام تیرا خادم تیرے حالانکہ سنی، نہیں کی نبیوں نے ہم

7	לֵךְ	אֲדֹנָי	הַעֲדָרָה	וְלָנוּ	בְּשֵׁת	הַפְּנִים	כִּינֹם	הַזֶּה	לְאִישׁ	יְהוּדָה
	تیری	خداوند	راستبازی	اور ہماری	شرمندگی	چہروں کی	جیسے	آج	آدمی	یہوداہ کے
	<a href="#">H0136</a>	<a href="#">H6666</a>			<a href="#">H1322</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H3063</a>
	וְלִיּוֹשְׁבֵי	יְרוּשָׁלַם	וְלְכָל-	יִשְׂרָאֵל	הַקְּרִבִים	וְהַרְחֻקִים	בְּכָל-	הָאֲרָצוֹת	אֲשֶׁר	
	اور رہنے والوں کے لیے	یروشلم	اور تمام	اسرائیل	قریب	اور دور	تمام	ممالک میں	جہاں	
	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H3389</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H7138</a>	<a href="#">H7350</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0776</a>		
	הַרְחֻקִים	נְשָׁם	בְּמַעְלָם	אֲשֶׁר	מַעְלוֹ-	בְּדָ:				
	تو نے نکالا انہیں	وہاں	ان کی ہے وفائی میں	جو	ہے وفائی کی انہوں نے	تیرے خلاف				
	<a href="#">H5080</a>	<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H4604</a>		<a href="#">H4603</a>					

رہتے میں ممالک دوردراز تمام ان یا قریب خواہ ہوں، کے اسرائیل یا یروشلم یہوداہ، خواہ ہیں، سار شرم سب ہم دن اس جبکہ ہے بجانب حق تو رب، اے ہیں رہے یوفا ساتھ ہی تیرے ہم کیونکہ ہے دیا کر منتشر سے سبب کے یوفائی ہماری ہمیں نے تو جہاں ہوں

8	יְהוּדָה	לָנוּ	בְּשֵׁת	הַפְּנִים	לְמַלְכֵינוּ	לְשָׂרֵינוּ	וְלְאֲבֹתֵינוּ			
	یہوداہ	ہماری	شرمندگی	چہروں کی	ہمارے بادشاہوں کے لیے	ہمارے سرداروں کے لیے	اور ہمارے باپ دادا کے لیے			
	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H1322</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H8269</a>	<a href="#">H0001</a>			
	אֲשֶׁר	חָטְאוּ	לָךְ:							
	جنہوں نے	گناہ کیا	تیرے خلاف							
		<a href="#">H2398</a>								

ہے کیا گناہ ہی تیرا نے ہم کیونکہ ہیں، سار شرم بہت سمیت دادا باپ اور بزرگوں بادشاہوں، اپنے ہم رب، اے

9	לְאֲדֹנָי	אֱלֹהֵינוּ	הַרְחֻמִים	וְהַסְלִיחוֹת	כִּי	מִרְדְּנוּ	בָּנוּ:			
	خداوند کی	ہمارے خدا	رحمتیں	اور معافیاں	کیونکہ	سرکشی کی ہم نے	اس کے خلاف			
	<a href="#">H0136</a>	<a href="#">H0430</a>		<a href="#">H5547</a>		<a href="#">H4775</a>				

ہیں ہوئے سرکش سے اس ہم گو ہے، کرتا معاف سے خوشی اور ہے رحیم خدا ہمارا رب لیکن

10	וְלֹא	שָׁמַעְנוּ	בְּקוֹל	יְהוָה	אֱלֹהֵינוּ	לְלֶכֶת	בְּתוֹרָתוֹ	אֲשֶׁר	נָתַן	
	اور نہ	سنا ہم نے	آواز	یہوواہ	ہمارے خدا کی	چلنے کے لیے	اس کی شریعتوں میں	جو	دیے	
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H8451</a>	<a href="#">H5414</a>			
	לְפָנֵינוּ	בְּדָ:	עֲבַדְיָךָ	הַנְּבִיאִים:						
	ہمارے سامنے	ہاتھ سے	اپنے بندوں	نبیوں کے						
	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H5030</a>						

تھے دیئے معرفت کی نبیوں یعنی خادموں اپنے ہمیں نے اس جو گزاری زندگی مطابق کے احکام ان کے اس نہ رہے، تابع کے خدا اپنے رب ہم نہ



15	וְעַתָּה	אֲדָנִי	אֱלֹהֵינוּ	אֲשֶׁר	הוֹצֵאתָ	אֶת-	עַמּוֹךְ	מֵאֶרֶץ	מִצְרַיִם	בְּיַד	חֲזָקָה
	اور-اب	خداوند	ہمارے-خدا	جس-نے	نکالا	کو	اپنی-قوم	سے-سرزمین	مصر-کی	ہاتھ-سے	قوی
	<a href="#">H6258</a>	<a href="#">H0136</a>	<a href="#">H0430</a>		<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H4714</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H2389</a>	

וְתַעֲשֶׂה- اور-بنایا-تو-نے  
 לָךְ- اپنے-لیے  
 שֵׁם- نام  
 כְּנִזָּם- جیسا  
 הַזֶּה- آج  
 חָטְאָנוּ- گناہ-کیا-ہم-نے  
 רָשָׁעֵנוּ: شرارت-کی-ہم-نے  
[H8034](#) [H3117](#) [H2088](#) [H2398](#) [H7561](#)

کے اس ہے۔ رہا قائم تک آج جو ملا جلال و عزت وہ کو نام تیرے یوں لایا۔ نکال سے مصر کو قوم اپنی کے کر اظہار کا قدرت بڑی تو خدا، ہمارے رب اے  
 ہیں۔ بوئی سرزد حرکتیں بے دین سے ہم کیا، گناہ نے ہم باوجود

16	אֲדָנִי	כָּכָל-	צְדִיקְתְּךָ	יִשָּׁב-	נָא	אִפְּךָ	וַחֲמִתְךָ	מִעִירְךָ	יְרוּשָׁלַם
	خداوند	تمام-کے-مطابق	تیری-راستبازی	لوٹ-جائے	براہ-کرم	تیرا-غضب	اور-تیرا-قہر	اپنے-شہر-سے	یروشلم
	<a href="#">H0136</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H6666</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H4994</a>	<a href="#">H0639</a>	<a href="#">H2534</a>	<a href="#">H3389</a>	

הָר- پہاڑ  
 קִדְשֶׁךָ- تیرا-مقدس  
 כִּי- کیونکہ  
 בַּחֲטָאֵינוּ- ہمارے-گناہوں-کی-وجہ-سے  
 וּבְעֹזוֹת- اور-ہدکاریوں-کی-وجہ-سے  
 אֲבֹתֵינוּ- ہمارے-باپ-دادا-کے  
 יְרוּשָׁלַם- یروشلم  
[H2022](#) [H6944](#) [H2399](#) [H5771](#) [H0001](#) [H3389](#)

וְעַתָּה- اور-تیری-قوم  
 לְחַרְפָּה- رسوائی-کا-باعث  
 לְכֹל- تمام-کے-لیے  
 סְבִיבֹתֵינוּ: ہمارے-ارد-گرد  
[H2781](#) [H3605](#) [H5439](#)

یروشلم کرا ڈور سے یروشلم پہاڑ مقدس اور شہر اپنے کو غضب سخت اپنے اور کر لحاظ کا اس بھی اب ہے! رہا وفادار میں کاموں منصفانہ اپنے تو رب، اے  
 ہو سے وجہ کی خطاؤں کی دادا باپ ہمارے اور گناہوں ہمارے یہ کہ ہیں مانتے ہم گو ہے، گئی بن نشانہ کا مذاق لئے کے قوموں کی نواح و گرد قوم تیری اور  
 ہے۔ رہا

17	וְעַתָּה	שָׁמַע	אֱלֹהֵינוּ	אֵל-	תְּפִלָּת	עֲבָדְךָ	וְאֵל-	וְהֵאָר	פְּנִיךָ
	اور-اب	سن	ہمارے-خدا	کی	دعا	اپنے-بندے-کی	اور-کی	اور-چمکا	اپنا-چہرہ
	<a href="#">H6258</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H8605</a>	<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0215</a>	<a href="#">H6440</a>

עַל- پر  
 מִקְדָּשֶׁךָ- اپنے-مقدس  
 הַשָּׁמַיִם- ویران  
 לְמַעַן- خاطر  
 אֲדָנִי: خداوند-کی  
[H4720](#) [H8076](#) [H4616](#) [H0136](#)

چمکا۔ نور مہربان کا چہرے اپنے پر مقدس شدہ تباہ اپنے خاطر ہی اپنی رب، اے سن! کو التجاؤں اور دعاؤں کی خادم اپنے اب خدا، ہمارے اے

18	הִטָּה	וְאֵלֵהֶי	אֲזַנְךָ	וְשָׁמַעַ	[פְּקוּחָה]	(פְּקוּחָה)	עֵינֶיךָ	וְרָאָה	שָׁמַמְתִּינוּ	וְהִתְעִיר
	جھکا	میرے-خدا	اپنا-کان	اور-سن	کھول	کھول	اپنی-آنکھیں	اور-دیکھ	ہماری-ویرانیوں	اور-شہر-کو
	<a href="#">H5186</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0241</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H6491</a>	<a href="#">H6491</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H7200</a>

אֲשֶׁר- جس-پر  
 נִקְרָא- پکارا-گیا-ہے  
 שְׁמֶךָ- تیرا-نام  
 עָלֶיהָ- اُس-پر  
 וְכִי- کیونکہ  
 לֹא- نہ  
 עַל- پر  
 צְדִיקְתֵינוּ- ہماری-راستبازیوں  
 אֲנַחְנוּ- ہم  
 מִפִּילִים- گراتے-ہیں  
[H7121](#) [H8034](#) [H3808](#) [H6666](#) [H0587](#) [H5307](#)

תְּחַנּוּנֵינוּ- اپنی-التجائیں  
 לְפָנֶיךָ- تیرے-سامنے  
 כִּי- بلکہ  
 עַל- پر  
 רַחֲמוֹת- تیری-رحمتوں  
 הַרְבִּים: بہت-سی  
[H8469](#) [H6440](#)

التجائیں سے تجھ لئے اس ہم ہے۔ لگا ٹھپا کا نام ہی تیرے پر جس کر نظر پر کھنڈرات کے شہر اُس کھول! آنکھیں اپنی سن! میری کر لگا کان خدا، میرے اے  
 ہے۔ مہربان نہایت تو کہ لئے اس بلکہ ہیں باز راست ہم کہ رہے کر نہیں

19	אֲדָנִי	שָׁמַעַה	וְאֲדָנִי	סְלַחָה	אֲדָנִי	הַקְּשִׁיבָה	וְעֵשָׂה	אֵל-	הֶאֱחָר	לְמַעַנְךָ	אֱלֹהֵי
	خداوند	سن	خداوند	معاف-کر	خداوند	توجہ-دے	اور-عمل-کر	نہ	دیر-کر	اپنے-لیے	میرے-خدا
	<a href="#">H0136</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H0136</a>	<a href="#">H5545</a>	<a href="#">H0136</a>	<a href="#">H7181</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H0309</a>	<a href="#">H4616</a>	<a href="#">H0430</a>

כִּי- کیونکہ  
 שְׁמֶךָ- تیرا-نام  
 נִקְרָא- پکارا-گیا-ہے  
 עַל- پر  
 עִירְךָ- اپنے-شہر  
 וְעַל- اور-پر  
 עַמּוֹךְ: اپنی-قوم  
[H8034](#) [H7121](#)

ہے۔ لگا ٹھہرا کا نام ہی تیرے پر قوم اور شہر تیرے کیونکہ کر نہ دیر خاطر اپنی خدا، میرے اے کر! معاف ہمیں رب، اے سن! ہماری رب، اے

20	וְעוֹד	אָנִי	מְדַבֵּר	וּמְתַפְּלֵל	וּמְתַנַּדֶּה	חַטָּאתִי	וְחַטָּאת	עֲמִי
	اور-ابھی	میں	بول-رہا-تھا	اور-دعا-کر-رہا-تھا	اور-اقرار-کر-رہا-تھا	اپنے-گناہوں	اور-گناہوں	میری-قوم
	<a href="#">H5750</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H6419</a>	<a href="#">H3034</a>			
	יִשְׂרָאֵל	וּמִפִּיל	תְּחַנְּנֵנִי	לִפְנֵי	יְהוָה	אֱלֹהֵי	עַל	הַר-
	اسرائیل-کے	اور-گراتا-تھا	اپنی-التجا	سامنے	بہوواہ	میرے-خدا-کے	بارے-میں	پہاڑ
	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H5307</a>	<a href="#">H8467</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H2022</a>	<a href="#">H6944</a>
	קָדֵשׁ	מִקְדָּשׁ	אֱלֹהֵי:					
	مقدس	میرے-خدا-کے						
	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H6944</a>						

کے خدا اپنے رب لئے کے یروشلم پہاڑ مُقَدَّس کے خدا اپنے کر خاص میں گیا۔ کرتا اقرار کا گناہوں کے اسرائیل قوم اپنی اور اپنے اور کرتا دعا میں یوں تھا۔ رہا کر فریاد حضور

21	וְעוֹד	אָנִי	מְדַבֵּר	בְּתַפְּלָה	וְהָאִישׁ	נְבִיאִים	אֲשֶׁר	רָאִיתִי	בְּחַזְוֹן	בְּתַחֲלָה
	اور-ابھی	میں	بول-رہا-تھا	دعا-میں	اور-آدمی	جبرائیل	جسے	دیکھا-میں-نے	رویاء-میں	شروع-میں
	<a href="#">H5750</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H8605</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H1403</a>		<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H2377</a>	<a href="#">H8462</a>
	מֵעַר	בִּיעוּף	זָנַע	אֵלַי	כָּעַת	מִנְחַת	עֶרְב:			
	اڑتا-بوا	تیزی-سے	چھوا	مجھے	وقت-کے-قريب	نذر-کی	شام			
	<a href="#">H3286</a>	<a href="#">H3288</a>	<a href="#">H5060</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H6256</a>	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H6153</a>			

تھا۔ وقت کا کرنے پیش قربانی کی شام میں گھر کے رب پہنچا۔ آپاس میرے تھا دیکھا میں رویا دوسری نے میں جسے جبرائیل کہ تھا رہا ہی کر دعا میں تھا۔ گیا تھک ہی بہت میں

22	וַיִּבֶן	וַיְדַבֵּר	עִמִּי	וַיֹּאמֶר	דָּנִיֵּאל	עֲתָה	יִצְאָתִי	לְהַשְׁכִּיחַ	בִּינָה:
	اور-سمجھایا	اور-بولا	میرے-ساتھ	اور-کہا	دانی-ایل	اب	نکلا-ہوں-میں	سمجھانے-کے-لیے-تجھے	سمجھ
	<a href="#">H0995</a>	<a href="#">H1696</a>		<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H1840</a>	<a href="#">H6258</a>	<a href="#">H3318</a>		<a href="#">H0998</a>

ہوں۔ آیا لئے کے دینے بصیرت اور سمجھ تجھے میں اب دانیال، اے کہا، کر سمجھا مجھے نے اُس

23	בְּתַחֲלִית	תְּחִנְנִי	יִצְאָ	רָךְ	וְאֲנִי	בְּאֵתִי	לְהַזְדַּיֵּד	כִּי	חַמוּדוֹת	אֶתָּה
	شروع-میں	تیری-التجاؤں-کے	نکلا	کلام	اور-میں	آیا-ہوں	بتانے-کے-لیے	کیونکہ	پیارا	تو-ہے
	<a href="#">H8462</a>	<a href="#">H8469</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H5046</a>			
	וּבִן	בְּדָבָר	וְהִבֵּן	בְּמִרְאָה:						
	اور-سمجھ	بات-کو	اور-سمجھ	رویاء-کو						
	<a href="#">H0995</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H0995</a>	<a href="#">H4758</a>						

سمجھ کو رویا سے دھیان اب ہوں۔ آیا سنانے جواب یہ تجھے میں ہے۔ قدر گراں میں نظر کی اُس تو کیونکہ دیا، جواب نے اللہ تو لگا کرنے دعا تو ہی جوں لے!

24	שָׁבְעִים	שָׁבְעִים	נְחֻמָּה	עַל-	וְעַמּוּדָה	וְעַל-	עִיר	קָדְשֶׁךָ	לְכֹלֵא
	ہفتے	ستر	مقرر-ہیں	خلاف	تیری-قوم-کے	اور-خلاف	شہر	تیرے-مقدس-کے	ختم-کرنے-کے-لیے
	<a href="#">H7620</a>	<a href="#">H7657</a>	<a href="#">H2852</a>					<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H3607</a>
	הַפְּשַׁע	וּלְחַתָּם	(וּלְהִתָּם)	(חַטָּאוֹת)	וּלְכַפֵּר	עוֹן			
	سرکشی	اور-مہر-لگانے-کے-لیے	اور-ختم-کرنے-کے-لیے	گناہوں	گناہ-کو	اور-کفارہ-دینے-کے-لیے	بدکاری		
	<a href="#">H6588</a>	<a href="#">H2856</a>	<a href="#">H8552</a>	<a href="#">H2403</a>	<a href="#">H5771</a>				

	וּלְהַבְיֵא	צִדֵּק	עֲלָמִים	וּלְחַתָּם	חַזוֹן	וְנִבְיָא	וּלְמִשְׁחָ	קָדֵשׁ	קְדָשִׁים:
	اور-لانے-کے-لیے	راستبازی	ابدی	اور-مہر-لگانے-کے-لیے	رویاء	اور-نبوت	اور-مسح-کرنے-کے-لیے	قدس	الاقداص
	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H6664</a>	<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H2856</a>	<a href="#">H2377</a>	<a href="#">H5030</a>	<a href="#">H4886</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H6944</a>

ابدی جائے، دیا کفارہ کا قصور جائے، کیا ختم سلسلہ کا گناہوں اور جرائم میں اُتے تاکہ ہیں گئے کئے مقرر ہفتے 70 لئے کے شہر مُقَدَّس تیرے اور قوم تیری جائے۔ کیا مُقَدَّس و مخصوص کے کر مسح کو جگہ ترین مُقَدَّس اور جائے کی تصدیق کی گوئی پیش اور رویا جائے، کی قائم راستی

25	וְתִדַּע	וְתִשְׁכַּח	מִן-	מִצָּא	דָּבָר	לְהָשִׁיב	וְלִבְנוֹת	יְרוּשָׁלַם	עַד-
	اور-جان	اور-سمجھ	سے	نکلنے	کلام-کے	بحال-کرنے-کے-لیے	اور-تعمیر-کرنے-کے-لیے	یروشلم-کو	تک
	<a href="#">H3045</a>			<a href="#">H4161</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H1129</a>	<a href="#">H3389</a>	<a href="#">H5704</a>

مُشِيح	نָזִיר	שָׂבָעִים	שָׂבָעָה	וְשָׂבָעִים	שָׁנִים	תְּשׁוּבָה	וּבְנוֹתָהּ	רְחוֹב	וְחָרוֹץ
مسیح	رہنما	ہفتے	سات	اور-ہفتے	ساتھ	لوٹے-گی	اور-تعمیر-ہو-گی	چوک	اور-خندق
<a href="#">H4899</a>	<a href="#">H5057</a>	<a href="#">H7620</a>	<a href="#">H7651</a>	<a href="#">H7620</a>	<a href="#">H8346</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H1129</a>	<a href="#">H7339</a>	

وּבְצֹק הָעָתִים:  
اور-مشکل-وقتوں-میں مصیبت-کے  
[H6256](#)

لئے کے کام اس کو حکمران ایک اللہ ہی پھر گے، گزریں ہفتے سات مزید لیکن گا، جائے دیا حکم کا کرنے تعمیر دوبارہ کو یروشلم کہ لے سمجھ اور لے جان اب سے مصیبت کافی وہ دوران اس گو گا، جائے کیا تعمیر سے سرے نئے سمیت خندقوں اور چوکوں اندر کے ہفتوں 62 کو شہر تب گا۔ کرے مسح کر چن گا۔ بو دوچار

26	וְאַחֲרָי	הַשָּׂבָעִים	שָׁנִים	וּשְׁנָיִם	יְכָרֶת	מְשִׁיחַ	וְאִין	לְ	וְהָעִיר
	اور-بعد	ہفتوں-کے	باسٹھ	اور-دو	کاٹا-جائے-گا	مسیح	اور-نہیں-ہو-گا	اُس-کے-لیے	اور-شہر-کو
	<a href="#">H7620</a>	<a href="#">H8346</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H3772</a>	<a href="#">H4899</a>	<a href="#">H0369</a>			

וְהַקֹּדֶשׁ	יְשׁוּחִית	עַם	נָזִיר	הַבָּא	וְקִצּוֹ	בְּשִׁטָּף	וְעַד	קָץ	מִלְחָמָה
اور-مقدس-کو	تباہ-کے-گی	قوم	رہنما	آنے-والے-کی	اور-اس-کا-انجام	سیلاب-سے	اور-تک	انتہا	جنگ
<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H7843</a>		<a href="#">H5057</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H7093</a>	<a href="#">H7858</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H7093</a>	<a href="#">H4421</a>

نְחֻצָּת שִׁמְמוֹת:  
مقرر  
ویرانیاں  
[H8074](#) [H2782](#)

شہر کر آ قوم کی حکمران اور ایک وقت اُس گا۔ بو نہیں بھی کچھ پاس کے اُس اور گا، جائے کیا قتل کو بندے گئے کئے مسح کے اللہ بعد کے ہفتوں 62 ان ہے۔ چکا بو فیصلہ کا جس گی بو تباہی ایسی گی، رہے جاری جنگ تک آخر اور گا، اُسے میں صورت کی سیلاب اختتام گی۔ کرے تباہ کو مقدس اور

27	וְהַנְּבִיר	בְּרִית	לְרֵבִים	שָׁבוּעַ	אֶחָד	וְחָצִי	הַשָּׁבוּעַ	וְיִשְׁבִּית	זִבְחַ	וּמִנְחָה
	اور-مضبوط-کے-گا	عہد-کو	بہتوں-کے-ساتھ	ہفتہ	ایک	اور-آدھے	ہفتے-کے	بند-کے-دے-گا	قربانی	اور-نذر
	<a href="#">H1396</a>	<a href="#">H1285</a>		<a href="#">H7620</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H2677</a>	<a href="#">H7620</a>		<a href="#">H2077</a>	<a href="#">H4503</a>

וְעַל	כְּנָף	שְׁמוֹצִים	מְשֻׁמָּם	וְעַד-	כְּלָה	וּנְחֻצָּה	תְּהָדָ	עַל-	שָׁמָם:
اور-پر	پر	مکروہات-کے	ویران-کرنے-والا	اور-تک	انجام	اور-فیصلہ	ڈالا-جائے-گا	پر	ویران-کرنے-والے
<a href="#">H3671</a>	<a href="#">H8251</a>	<a href="#">H8074</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H3617</a>	<a href="#">H2782</a>	<a href="#">H5413</a>		<a href="#">H8074</a>	

פ  
□

کرے بند انتظام کا قربانیوں کی غلہ اور ذبح وہ میں بیچ کے ہفتے اس گا۔ کرے مجبور پر رہنے تحت کے عہد ایک کو لوگوں متعدد حکمران یہ تک ہفتے ایک وہ آخرکار اور ہے، گیا کیا مقرر بھی خاتمہ کا والے کرنے تباہ لیکن ہے۔ باعث کا تباہی اور بے حرمتی جو گا کرے کھڑا کچھ وہ طرف ایک کے مقدس اور گا گا۔ جائے بو تباہ بھی